



سوال

(95) اگر شادی کے بعد علم ہو کہ شوہر کافر ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

- ایک آدمی نے مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی پھر ظاہر ہوا کہ مرد کافر ہے تو اب کیا حکم ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر ثابت ہو جائے کہ آدمی عقد نکاح کے وقت کافر تھا اور عورت مسلمان تھی بلاشبہ عقد باطل ہے کیونکہ مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ کسی بھی کافر کا نکاح مسلمان عورت کے ساتھ جائز نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ولا تنکحوا المشرکین حتی یتؤمنوا... البقرة ۲۲۱

"اور (اپنی عورتوں کو) مشرکوں کے نکاح میں مت دو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ لَآ يَنْحِلْنَ عَلَيْهِنَّ حِلُّ قَوْمٍ وَلَا يُمْسِكُوْنَ لَهُنَّ... ۱۰... المتحنه

"اگر تمہیں ان (عورتوں) کے مومن ہونے کا علم ہو جائے تو انہیں کافروں کی طرف واپس مت لوٹاؤ (کیونکہ) نہ تو وہ (مسلمان عورتیں) ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی وہ (کافر) ان مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔" (شیخ ابن باز)

حد ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ نکاح و طلاق



سلسلہ فتاویٰ عرب علماء 4

صفحہ نمبر 157

محدث فتویٰ